

## JUZ 23 Part 2

### PRACTICE WORD SURAH SAFFAT 145-182

پھر ڈال دیا ہم نے اسے	فَ+نَبَذْنَا+هُ	فَنَبَذْنَاهُ
میدان میں	بِ+الِ+عَرَاءِ	بِالْعَرَاءِ
بیمار تھا	سَقِيمٌ	سَقِيمٌ
بہکا سکتے	بِ+فَاتِنِينَ	بِفَاتِنِينَ
جانے والا ہے	صَالٍ	صَالٍ
صحن میں ان کے	بِ+سَاحَتِ+هِمْ	بِسَاحَتِهِمْ

### PRACTICE WORD SURAH SUAD 1-28

مخالفت	شِقَاقٍ	شِقَاقٍ
اور نہ تھی	وَوَلَاتَ	وَوَلَاتَ
خلاصی / نجات	مَنَاصٍ	مَنَاصٍ
چل پڑے	انْطَلَقَ	انْطَلَقَ
چلو	امشُوا	امشُوا
جو ارادہ کی جاتی ہے	يُرَادُ	يُرَادُ
من گھرت	اختِلَاقٌ	اختِلَاقٌ

پس چاہئے کہ وہ اوپر چڑھ جائیں	فَ+لُ+يَرْتَقُ+وَا	فَلْيَرْتَقُوا
رسیاں تان کر	ال+أَسْبَابِ	الْأَسْبَابِ
شکست کھانے والے	مَهْزُومٌ	مَهْزُومٌ
میخیں	ال+أَوْتَادِ	الْأَوْتَادِ
وقفہ	فَوَاقٍ	فَوَاقٍ
حصہ ہمارا	قِطًّا+نَا	قِطْنًا
طاقنور	ال+أَيْدِ	الْأَيْدِ
اکٹھے رہنے والے	مَحْشُورَةً	مَحْشُورَةً
جھگڑنے والوں کی	ال+خَصْمِ	الْخَصْمِ
دیوار پھاند کر آئے	تَسَوَّرُوا	تَسَوَّرُوا
عبادت خانے	ال+مِحْرَابِ	الْمِحْرَابِ
تو وہ گھبرا گئے	فَ+فَزِعَ	فَفَزِعَ
بے انصافی / زیادتی	تُشْطِطُ	تُشْطِطُ
دنیاں ہیں	نَعَجَةً	نَعَجَةً
حوالے کر دے میرے اسے	أَكْفِلُ+نِي+هَا	أَكْفِلْنِيهَا
غلبہ پالیا مجھ پر	عَزَّ+نِي	عَزَّنِي

شراکت دار	ال + خُلَطَاءِ	الْخُلَطَاءِ
<b>PRACTICE WORD SURAH SAUD 29-88</b>		
فرہ تو انا گھوڑے	ال + صَافِنَاتُ	الصَّافِنَاتُ
تیز رفتار	ال + جِيَادُ	الْجِيَادُ
ترجیح دی میں نے	أَحْبَبْتُ + ت	أَحْبَبْتُ
چھپ گیا	تَوَارَتْ	تَوَارَتْ
پس لگا	ف + طَفِقَ	فَطَفِقَ
ہاتھ پھیرنے لگا	مَسَحَا	مَسَحَا
پنڈلیوں پر	ب + ال + سُوْقِ	بِالسُّوقِ
گردنوں پر	ال + أَعْنَاقِ	الْأَعْنَاقِ
ایک جسم	جَسَدًا	جَسَدًا
نرمی سے	رُخَاءً	رُخَاءً
پہنچنا ہوتا تھا	أَصَابَ	أَصَابَ
عمار تیں بنانے والے / معمار	بِنَاءٍ	بِنَاءٍ
غوطہ مارنے والے	غَوَاصٍ	غَوَاصٍ
جکڑے ہوئے	مُقَرَّرِينَ	مُقَرَّرِينَ

زنجیریں / بیڑیاں	ال + أَصْفَادٍ	الْأَصْفَادِ
تو احسان کرو	ف + اَمْنُنْ	فَأَمْنُنْ
روک لے	أَمْسِكْ	أَمْسِكْ
تکلیف (جسمانی تکلیف)	ب + نُصِبِ	بُنْصِبِ
مارو	ارْكَضْ	ارْكَضْ
نہانے کا	مُغْتَسِلٌ	مُغْتَسِلٌ
ٹھنڈا	بَارِدٌ	بَارِدٌ
جھاڑو	ضِعْنًا	ضِعْنًا
قسم توڑ	تَحْنَتْ	تَحْنَتْ
نیک لوگوں	ال + أَخْيَارِ	الْأَخْيَارِ
کھلے ہوں گے	مُفْتَحَةً	مُفْتَحَةً
ہم عمر	أَتْرَابٌ	أَتْرَابٌ
کبھی ختم ہونا	نَفَادٍ	نَفَادٍ
پیپ	غَسَاقٌ	غَسَاقٌ
گھسنے والا	مُقْتَحِمٌ	مُقْتَحِمٌ
شریر	ال + أَشْرَارِ	الْأَشْرَارِ

کج ہو گئی	زَاعَتْ	زَاعَتْ
البتہ بھردوں گا میں ضرور	ل+أَمْلاً+نَّ	لَأَمْلاًنَّ
تکلف کرنے والا	ال+مُتَكَلِّفِينَ	الْمُتَكَلِّفِينَ

## PRACTICE WORD SURAH ZUMAR 1-21

لپیٹتا ہے / ڈھانپتا ہے	يُكْوِّرُ	يُكْوِّرُ
عطا فرمادیتا ہے اس کو	خَوْلٌ+هُ	خَوْلَهُ
اوقات	آنَاءٌ	آنَاءٌ
بچتے رہے / اجتناب	اجْتَنَبُوا	اجْتَنَبُوا
تم بچاؤ گے	تُنْقِذُ	تُنْقِذُ
بالا خانے	عُرْفٌ	عُرْفٌ
بنے ہوئے	مَبْنِيَّةٌ	مَبْنِيَّةٌ
پھر چلا دیتا ہے اُسے	ف+سَلَكَ+هُ	فَسَلَكَهُ
خشک ہو جاتی ہے	يَهِيحُ	يَهِيحُ
زرد	مُصْفَرًّا	مُصْفَرًّا
چورا چورا / ریزہ ریزہ	حُطَامًا	حُطَامًا

## PRACTICE WORD SURAH ZUMAR 22-41

کھول دیا	شَرَحَ	شَرَحَ
لیئے انکے کہ سخت ہیں	لِ+ل+قَاسِيَةٍ	لِلْقَاسِيَةِ
دہرائی جانے والی	مَثَانِي	مَثَانِي
رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں	تَقْشَعْرُ	تَقْشَعْرُ
نرم ہو جاتی ہیں	تَلِينُ	تَلِينُ
جھگڑالو	مُتَشَاكِسُونَ	مُتَشَاكِسُونَ
سلامت ہے	سَلَمًا	سَلَمًا
کافی ہے	بِ+كَافٍ	بِكَافٍ
وہ ڈراتے ہیں آپ کو	يُخَوِّفُ+وَنَ+كَ	يُخَوِّفُونَكَ
دور کرنے والیاں	كَاشِفَاتُ	كَاشِفَاتُ
روکنے والیاں	مُمْسِكَاتُ	مُمْسِكَاتُ
اترتا ہے	يَحِلُّ	يَحِلُّ
دائمی / ہمیشہ کا	مُقِيمٌ	مُقِيمٌ